

الْوَاقِعَةُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

جب واقع ہو جائے گی واقع ہونے والی۔

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ^١

نہیں اسکے واقع ہونے میں کچھ جھوٹ۔

لَيْسَ لَوْقَعَتِهَا كَاذِبَةٌ^٢

کسی کو پست کرنے کسی کو بلند کرنے والی۔

خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ^٣

جب لرزنے لگے زمین بھونچال سے۔

إِذَا رَجَّعَتِ الْأَرْضُ رَجًّا^٤

اور ریزہ ریزہ کر دیئے جائیں پہاڑ پوری طرح۔

وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا^٥

تو ہو جائیں وہ غبار بکھرے ہوئے۔

فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنبَثًّا^٦

اور ہو جاؤ گے تم گروہ تین قسم کے۔

وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً^٧

تو داہنے ہاتھ والے کیا کہنے داہنے ہاتھ والوں کے۔

فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ط

اور بائیں ہاتھ والے کیا ہی (افسوس) بائیں ہاتھ والوں پر۔

وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ط

اور سبقت لیجانیوالے تو میں سبقت لیجانیوالے۔

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ج

یہی لوگ ہیں مقربین۔

أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ج

نعمت کی بہشتوں میں۔

فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ط

بہت سے ہوں گے پہلے لوگوں میں سے۔

ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْأُولَىٰ لَ ط

اور تھوڑے سے بعد والوں میں سے۔

وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ط

مسندوں پر جو آراستہ ہیں۔

عَلَىٰ سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ لَ ط

تکیہ لگائے ہوئے ان پر آمنے سامنے۔

مُتَّكِنِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ ط

یہ پھریں گے ان کے پاس نوجوان جو ہمیشہ
ایک ہی حالت میں رہیں گے۔

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ
وَلِدَانٌ
مُخَلَّدُونَ ﴿١٧﴾

آمخوڑے اور آفتابے اور جام صاف نتھری ہوئی
شراب کے۔

بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ وَكَؤُوسٍ مِّنْ
مَّعِينٍ ﴿١٨﴾

نہ سرچکرائے ان کا اس سے اور نہ زائل ہوں
ان کی عقلیں۔

لَّا يَصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْفُونَ ﴿١٩﴾

اور میوے جس طرح کے انکو پسند ہوں۔

وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ﴿٢٠﴾

اور گوشت پرندوں کا جسکی ہوا نہیں رغبت۔

وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٢١﴾

اور حویں بڑی بڑی آنکھوں والی۔

وَحُورٍ عِينٍ ﴿٢٢﴾

جیسے آبدار موتی حفاظت سے رکھے ہوئے۔

كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ ﴿٢٣﴾

اعمال کا بدلہ اسکا جو وہ کرتے تھے۔

جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾

نہ سنیں گے وہ وہاں کوئی بیہودہ کلام اور نہ

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا

تَأْتِيَمًا ۲۵

گناہ کی بات۔

إِلَّا قِيْلًا سَلْمًا سَلْمًا ۲۶

سوائے کلام (ان کا ہوگا) سلام سلام۔

وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ ۲۷
مَا أَصْحَابُ

اور داہنے ہاتھ والے کیا کہنے میں داہنے ہاتھ والوں کے۔

فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ ۲۸

(باغ میں جن) میں بیریاں بے کانٹوں کی۔

وَأَطْلَحِ مَنضُودٍ ۲۹

اور کیلے تہ بہ تہ۔

وَزَيْلٍ مَّمْدُودٍ ۳۰

اور سائے لمبے لمبے۔

وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ ۳۱

اور پانی ہر دم رواں۔

وَأَفَاكِهِ كَثِيرَةٍ ۳۲

اور میوے بکثرت۔

لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ۳۳

نہ ختم ہونیوالے اور نہ ان پر کوئی روک ٹوک۔

وَأَفْرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ ۳۴

اور فرش اونچے اونچے۔

إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنشَاءً ۝۲۵

بیشک اٹھایا ہم نے ان حوروں کو نئے طور پر۔

فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا ۝۲۶

تو بنایا ہم نے انکو کنواریاں۔

عُرُبًا أَتْرَابًا ۝۲۷

شوہروں کی پیاری ہم عمر۔

لِلْأَصْحَابِ الْيَمِينِ ۝۲۸

داہنے ہاتھ والوں کے لئے۔

ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ ۝۲۹

یہ بہت سے پہلوں میں سے۔

وَأُثَلَاثَةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ۝۳۰

اور بہت سے بعد والوں میں سے۔

وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ ۝۳۱
الشِّمَالِ ۝۳۱

اور بائیں ہاتھ والے کیا ہی (افسوس میں)
بائیں ہاتھ والے۔

فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ ۝۳۲

دوزخ کی لپٹ میں اور کھولتے پانی میں۔

وَأُظِلُّوا مِّنْ يَّحْمُومٍ ۝۳۳

اور سائے میں سیاہ دھوئیں کے۔

لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ۝۳۴

نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ آرام دہ۔

إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ

بیشک یہ لوگ تھے اس سے پہلے عیش میں

پڑے ہوئے مگن۔

مُتَرْفِئِينَ
٤٥

اور اصرار کیا کرتے تھے بڑے بڑے
گناہوں پر۔

وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ
الْعَظِيمِ
٤٦

اور کہا کرتے تھے کہ بھلا جب ہم مر گئے اور
ہو گئے مٹی اور ہڈیاں تو کیا ہمیں پھراٹھنا ہوگا۔

وَكَانُوا يَقُولُونَ أَيُّدَا مِثْنَا وَكُنَّا
تُرَابًا وَعِظَامًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ
٤٧

اور کیا باپ دادا کو ہمارے اگلے لوگوں میں۔

أَوِ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ
٤٨

کمدو کہ بیشک پہلے اور بعد والے۔

قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ
٤٩

سب ضرور جمع کئے جائیں گے۔ ایک وقت
پر روز مقرر کے۔

لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ
مَّعْلُومٍ
٥٠

پھر یقیناً تم اے وہ جو گمراہ ہو جھٹلانے
والے ہو۔

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ
الْمُكَذِّبُونَ
٥١

ضرور کھاؤ گے تم اس درخت سے جو قوم ہے۔

لَا تَكُلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زُقُومٍ
٥٢

پھر بھرو گے اسی سے پیٹ۔

فَمَا لُؤُنٌ مِنْهَا الْبُطُونُ ﴿٥٣﴾

پھر پیو گے اس پر کھولتا ہوا پانی۔

فَشْرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ ﴿٥٤﴾

پھر پیو گے جیسے پیتے ہیں پیاسے اونٹ۔

فَشْرِبُونَ شُرْبَ الْهَيْمِ ﴿٥٥﴾

یہ ہوگی ضیافت انکی انصاف کے دن۔

هَذَا نُزْلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ ﴿٥٦﴾

ہم ہی نے پیدا کیا تمکو تو کیوں نہیں سچ سمجھتے۔

نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ﴿٥٧﴾

بھلا پھر دیکھو تو یہ جو لطف تم ڈالتے ہو۔

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ﴿٥٨﴾

کیا تم پیدا کرتے ہو اس سے یا ہم میں پیدا کرنے والے۔

ءَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ﴿٥٩﴾

ہم نے مقرر کر دیا ہے تمہارے درمیان موت کو اور نہیں میں ہم عاجز۔

نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿٦٠﴾

اسپر کہ بدل ڈالیں تمہاری طرح کے اور۔ اور پیدا کر دیں تمکو ایسے میں جسکو نہیں تم جانتے۔

عَلَىٰ أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾

اور یقیناً تم جاننے ہو پہلی پیدائش تو کیوں
نہیں تم سوچتے۔

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا
تَذَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾

بھلا پھر دیکھو تو جو کچھ تم بولتے ہو۔

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ^ط
﴿٦٣﴾

تو کیا تم اگاتے ہو کھیتی اس سے یا ہم میں
اگانے والے۔

ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهَا أَمْ نَحْنُ
الزَّارِعُونَ ﴿٦٤﴾

اگر ہم چاہیں تو کر دیں اسے چورا چورا سورہ جاؤ
تم باتیں بناتے۔

لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلِمْتُمْ
تَفَكَّهُونَ ﴿٦٥﴾

کہ ہم تو تاوان میں پھنس گئے۔

إِنَّا لَمُغْرَمُونَ^{لا}
﴿٦٦﴾

بلکہ ہم بے نصیب رہ گئے۔

بَلْ نَحْنُ مُحْرَمُونَ ﴿٦٧﴾

بھلا پھر دیکھو تو پانی جو تم پیتے ہو۔

أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ^ط
﴿٦٨﴾

کیا تم نے اسکو نازل کیا ہے بادل سے یا ہم
میں نازل کرنے والے۔

ءَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ
الْمُنزِلُونَ ﴿٦٩﴾

لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا فَلَوْ لَا تَشْكُرُونَ ﴿٧٠﴾

اگر ہم چاہیں تو کر دیں اسے کھاری پھر کیوں نہیں تم شکر کرتے۔

أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ﴿٧١﴾

بھلا پھر دیکھو تو وہ آگ جو تم سلگاتے ہو۔

ءَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ ﴿٧٢﴾

کیا تم نے پیدا کیا ہے اس کے درخت کو یا ہم میں پیدا کرنے والے۔

نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذَكِرَةً وَ مَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ ﴿٧٣﴾

ہم نے بنایا ہے اسے یاد دہانی کا ذریعہ اور برتنے کو مسافروں کے لئے۔

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٧٤﴾

تو تسبیح کرو نام کی اپنے رب عظیم کے۔

فَلَا أَقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ﴿٧٥﴾

تو نہیں قسم کھاتا ہوں میں تاروں کی منزلوں کی۔

وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لِّو تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿٧٦﴾

اور یقیناً قسم ہے یہ اگر تم سمجھو تو بہت بڑی۔

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ﴿٧٧﴾

یقیناً یہ قرآن ہے بڑے رتبے کا۔

فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ﴿٧٨﴾

جو کتاب (لوح محفوظ) میں ہے پوشیدہ۔

نہیں ہاتھ لگاتے اس کو مگر جو پاک ہیں۔

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ^ط
(۷۶)

اتارا گیا ہے یہ رب العالمین کی طرف سے۔

تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ^ط
(۷۷)

تو کیا پھر اس کلام کے ساتھ تم سستی کرتے ہو۔

أَفِيْهِذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ^ط
(۸۱)

اور بناتے ہو تم اپنا حصہ یہ کہ تم جھٹلاتے
رہتے ہو۔

وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ
تُكذِّبُونَ^ط
(۸۲)

سو کیوں نہیں جب آپہنچتی ہے جان گلے تک۔

فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ^ط
(۸۳)

اور تم اس وقت کی حالت کو دیکھا کرتے ہو۔

وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ^ط
(۸۴)

اور ہم زیادہ نزدیک ہوتے ہیں اس کے تم
سے بھی لیکن نہیں تمکو نظر آتے۔

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا
تُبْصِرُونَ^ط
(۸۵)

پس کیوں نہیں اگر تم ہو خود مختار۔

فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ^ط
(۸۶)

لوٹا لو اسے اگر تم ہو سچے۔

تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ^ط
(۸۷)

سو اگر وہ ہوا مقربوں میں سے (تو اسکے لئے)۔

فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ^ط
(۸۸)

ہے راحت اور رزق اور جنت نعمت والی۔

فَرُوحٌ وَرَیْحَانٌ^ل وَجَنَّتُ نَعِیْمٍ^ل
۸۹

اور البتہ اگر وہ ہوا دائیں ہاتھ والوں میں سے۔

وَ اَمَّا^ل اِنْ كَانَ مِنْ اَصْحَابِ
الْیَمِیْنِ^ل
۹۰

تو سلام تجھ پر داہنے ہاتھ والوں میں سے۔

فَسَلَّمَ^ط لَكَ مِنْ اَصْحَابِ الْیَمِیْنِ^ط
۹۱

اور البتہ اگر وہ ہوا جھٹلانے والے گمراہوں میں سے۔

وَ اَمَّا^ل اِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِیْنَ
الضَّالِّیْنَ^ل
۹۲

توضیافت ہے اس کے لئے کھولتے پانی کی۔

فَنُزِّلُ^ل مِنْ حَمِیْمٍ^ل
۹۳

اور داخل کیا جانا جہنم میں۔

وَ تَصْلِیَةٌ جَحِیْمٍ^ل
۹۴

بیشک یہی ہے وہ واقعی یقینی بات۔

اِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْیَقِیْنِ^ج
۹۵

تو تسبیح کرو نام کی اپنے رب عظیم کے۔

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِیْمِ^ع
۹۶

